

مَشْرِكٌ ذَالِيں گے ہم پیدائشِ مولیٰ کی دُھوم
(از: امام احمد رضا)

دَم میں جب تک دم ہے، ذکر اُن کا سُناتے جانا ہیگی
(از: امام احمد رضا)

مَسَلِّکُ شَافِعِی

اَوْز

مِیْلَا دِیْبُوکی

مُصَنَّفُ

مولانا محمد عاقب شافعی رضوی

www.Markazahlesunnat.com

مَرْکَزُ السُّنَنِتِ بِرِکَاتِیضَا
(مِیْنِ وَاوَرَهٗ، پُورَہٗ سُنَدِ الْبُرْجَاتِ)



تمام حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مسلكِ شافعی اور میلادِ نبوی ﷺ
تصنیف :	مولانا محمد عاقب کھر بے شافعی رضوی
سن اشاعت :	۱۴۲۵ھ / ۲۰۰۴ء
تعداد :	ایک ہزار (۱۰۰۰)
باہتمام :	علامہ عبدالستار ہمدانی ”مصرف“ برکاتی، نوری
ناشر :	مرکز اہل سنت برکات رضا، پور بندر۔ گجرات

ملنے کے پتے

- (۱) مرکز اہل سنت برکات رضا، امام احمد رضا روڈ، پور بندر۔ گجرات
- (۲) فاروقیہ بک ڈپو، ٹیما محل، جامع مسجد، دہلی۔
- (۳) کتب خانہ امجدیہ، ٹیما محل، جامع مسجد، دہلی

مسلكِ شافعی
اور

میلادِ نبوی ﷺ

از قلم

مولانا محمد عاقب شافعی رضوی

ناشر

مرکز اہل سنت برکات رضا

امام احمد رضا روڈ، میمن واڈ، پور بندر۔ گجرات

تقریظ جلیل

از

نواسر صدر الشریعہ حضرت حافظ وقاری
مفتی محمود اختر قادری صاحب قبلہ (بمبئی)

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ حبیبہ الکریم

عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر خوشیاں منانا بے اصل اور بلا دلیل نہیں ہے بلکہ نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے، اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ: ”یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔“ نیز ارشاد ہوا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ: ”اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔“ رسول اکرم، نور مجسم، سرکار دو عالم ﷺ سے بڑھ کر اللہ کا فضل، اس کی رحمت اور اس کی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ سراپا رحمت، ان کے رب نے انہیں رحمۃ للعالمین بنایا، وہ اللہ کا فضل و احسان کہ ان کی تشریف آوری کو ان کے رب نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ (بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا) سے بیان فرمایا، تو عید میلاد پر ہم اللہ تعالیٰ کی اسی عظیم نعمت کا چرچا کرتے ہیں اور اللہ کے اسی فضل و احسان اور رحمت کی تشریف آوری پر ہم خوشیاں مناتے

ہیں، جشن برپا کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے فرمان وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ (انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ) پر عمل کرتے ہیں کہ جب یوم نزول ماندہ اگلے پچھلے لوگوں کے لئے عید اور ایام اللہ سے ہے تو جس دن ساری کائنات کے مالک و مختار، باعث تخلیق کائنات اس خاکدان گیتی پر جلوہ افروز ہوئے، وہ دن ضرور عید کا دن اور ایام اللہ سے ہے، اور ایام اللہ کو یاد دلانے کا حکم خود خالق کائنات نے دیا۔ لہذا عید میلاد النبی ﷺ منانا دراصل رب قدیر کے ان ارشادات جلیلہ پر عمل کرنا ہے۔

جہاں محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر کا معاملہ ہوتا ہے مخالفین و معاندین ”بدعت، بدعت“ کی رٹ لگانے لگتے ہیں، عید میلاد النبی ﷺ کے مبارک موقع پر خوشیاں منانا، چراغاں کرنا، گلی کوچے سجانا، محفلیں منعقد کرنا، جلوس نکالنا بھی تعظیم و توقیر کے قبیل سے ہے۔ لہذا منکرین اسے بھی بدعت سیئہ قرار دیتے ہیں کہ عہد رسالت میں یا زمانہ صحابہ میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا۔ اگر قرون اولیٰ میں کسی امر کا نہ ہونا ہی بدعت سیئہ کی دلیل ہے تو پھر مساجد میں نقش و نگار کا کرنا، گنبد و مینار کا بنوانا، میناروں پر لائٹنگ کرنا، قرآن حکیم کا تیس پاروں میں منقسم کرنا، احادیث کریمہ کو کتابی شکل میں جمع کرنا، حدیث کی قسمیں بیان کرنا وغیرہ وغیرہ تمام بدعات سیئہ ہیں کہ قرون اولیٰ میں یہ چیزیں نہیں تھیں اور مخالفین بھی ان امور کے قائل ہیں لہذا وہ بھی بدعتی ٹھہرے۔

قرون اولیٰ میں کسی امر کا نہ ہونا بدعت (سیئہ) ہونے کے لئے کافی نہیں ورنہ حدیث شریف کی مخالفت لازم آئے گی کیوں کہ حدیث شریف میں ہے: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدَهُ

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ۔

ترجمہ

”جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اسے اس کا ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے ان کے ثواب میں بغیر کسی نقصان کے، اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے اس پر اس کا گناہ ہے اور ان لوگوں کا بھی گناہ اس پر ہے جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے گناہ میں کسی کمی کے بغیر۔“ (مشکوٰۃ، باب العلم)

اس حدیث شریف سے بالکل واضح ہے کہ اسلام میں کسی کار خیر کا ایجاد کرنا ثواب کا باعث ہے اور برے کام کا جاری کرنا گناہ کا موجب ہے۔ عید میلاد کے موقع پر جشن منانا، جلسہ و جلوس کرنا، چراغاں کرنا، گلی کو چے آراستہ کرنا، مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً پُرْعَمَلْ کرنا ہے کہ یہ سب تعظیم و توقیر کے قبیل سے ہے۔ اب ان امور کا وہی انکار کرے گا اور انہیں بدعت سیئہ کہے گا، جو اس حدیث سے جاہل ہے یا اس کا سینہ بغض و کینہ اور دشمنی رسول ﷺ سے بھرا ہوگا۔

زیر نظر رسالہ میں عزیزم مولوی محمد عاقب کھر بے شافی رضوی سَلَّمَہُ زَبَدَمَجْدُہُ نے بڑی عرق ریزی اور محنت و جانفشانی سے عید میلاد النبی ﷺ کے موقع پر خوشیاں منانے، محفلیں منعقد کرنے، چراغاں کرنے اور صلاۃ و سلام مع قیام کے اثبات و استحسان پر شافی ائمہ کرام و علماء عظام علیہم الرحمۃ الرضوان کی مستند و معتبر کتابوں اور فتاویٰ کی عبارتیں پیش کیں اور یہ واضح کر دیا کہ اس امر میں مذاہب اربعہ حقہ کے ائمہ و علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یہ مخالفین کا سفسطہ اور دھوکہ ہے کہ عید میلاد النبی ﷺ منانا صرف حنفیوں کی ایجاد ہے۔

عزیز موصوف نے بڑے اچھے انداز میں مخالفین کے اعتراض کے ”عید میلاد النبی ﷺ و دیگر معمولات اہلسنت مولانا احمد رضا خان بریلوی (علیہ الرحمۃ) کے گھر کی ایجاد و اختراع ہے“ کا دندان شکن جواب دیا اور کتب معتبرہ کے حوالے سے ثابت کیا کہ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز سے صدیوں پہلے کے ائمہ کرام اور مرجع فتاویٰ علماء عظام کے عقائد و معمولات بھی یہی تھے، بس اعلیٰ حضرت نے انہیں معتقدات و معمولات کو مزید مدلل و مبرہن فرما کر ہمارے سامنے پیش فرما دیا ہے۔

ربِّ قدیر اپنے حبیب ﷺ کے صدقہ میں عزیز موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اسے مقبول اَنَامْ کرے اور اس سے مسلمانوں کو استفادہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ (آمین بجاء النبی سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم)

حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولیٰ کی دھوم
مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے

فقط والسلام

محمود اختر القادری عنفی عنہ

خادم الافقاء رضوی امجدی دار الافقاء

بمبئی

۱۱/ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

تقریباً دل پذیر

از: مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب قبلہ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی و رسولہ و نبیہ و حبیبہ الکریم

اس مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا احسان دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کی بعثت کریمہ سارے انعامات و اکرامات میں افضل ترین ہے۔ اور انعام و احسان پر خوشیاں منانا، جلسہ و جلوس کرنا، رب کریم کے عطا کردہ انعام کا گن گانا۔ بلاشبہ قرآن پر عمل ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان اور انعام و اکرام کے حصول پر مسرت و شادمانی اور فرحت و سرور کے اظہار کا حکم فرماتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - (سورہ یونس، آیت نمبر ۵۸)

تم فرماؤ (اے نبی) اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ (کنز الایمان)

نبی کریم ﷺ کی آمد مومنین پر وہ احسان عظیم ہے کہ جس کو خود خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - (سورہ آل عمران، آیت نمبر ۱۶۴)

بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ (کنز الایمان)

اس انعام کی خصوصی شان یہ ہے کہ دیگر انعامات اپنوں اور بیگانوں، خاص اور عام، مومن و کافر سب کے لئے ہیں۔ اور اس لطف و کرم سے صرف اہل ایمان کو سرفراز فرمایا گیا ہے۔ اسی لئے آپ کی ولادت مبارک پر خوشیاں اور مسرتیں صرف مومنوں، مسلمانوں کو ہی ہوتی ہیں۔ دشمنوں اور مخالفوں کو نہیں ہوتی۔ بلکہ صدمہ اور رنج ہوتا ہے۔ تبھی تو بجائے خوشی کے میلاد مبارک پر انگشت نمائی اور نکتہ چینیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ شیطان لعین ابلیس کو بھی میلاد مبارک کے دن صدمہ ہوا تھا۔

فرزندان توحید ہر زمانے میں اپنے رب کریم کی اس نعمت عظمیٰ اور احسانات کبریٰ پر اپنے جذبات تشکر و امتنان کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ عالم اسلام

کے ہر شہر و قریہ میں عید میلاد النبی ﷺ منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان راتوں اور دنوں میں ذکر و نعت کی محافل منعقد کی جاتی ہیں۔ جن میں رب تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مکرم ﷺ کی شان رفعت و دلربائی کے تذکرے جھوم جھوم کر کئے جاتے ہیں۔ علماء و فضلاء اور خطباء و شعراء نبی کریم ﷺ کی صورت و سیرت، فضائل و کمالات خصائص محمد کے بیان اور حمد و نعت کے پر کیف نغموں سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام کی روح پرورد صداؤں سے ساری فضا معطر و منور ہو جاتی ہے۔ اہل خیر کھانے پکا پکا کر غرباء و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ صدقات و خیرات سے ضرورت مندوں کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے گلشن اسلام میں ایک نئی بہار و نشاط آگئی ہے۔

مذہب اسلام میں جو تقاریب ہیں وہ ہر حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہر تقاریب میں ماضی کے زبردست حوادث اور اکابر کے عظیم الشان کارنامے مخفی ہیں، مثلاً عید الاضحیٰ کے مبارک دن میں جانور ذبح کرنا دراصل حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کے واقعات و حالات اور جذبات اثار و قربانی کو تازہ کرتا ہے۔ ان تقاریب کو قائم رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف قائم کیا اور اللہ کی راہ میں بے مثال قربانیاں دیکر اپنے اعمال و کردار کا بہترین نمونہ پیش کر کے، حق و صدقت کے پرچم کو بلند کر کے میدان عمل میں آئے اور آ کر ارباب باطل کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھا جائے، تاکہ ان کی یاد

کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال حسنہ اور ان کے عظیم الشان کارناموں کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے۔ اور مسلمانوں کے عمل میں تیزی، جذبات میں فرحت، معلومات میں وسعت، خیالات میں رفعت پیدا ہوتی رہے۔ اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت کے حاصل کرنے کیلئے تیار و مستعد رہے اور اپنے اخلاق و کردار کو اپنے اسلاف کے سانچے میں ڈھال سکے۔

جو خوش بخت اس نعمت کی قدر و قیمت سے آگاہ ہیں وہ تا ابد اپنی فہم اور استعداد کے مطابق اپنے رؤف و رحیم پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ دورہ حاضر کے بعض کم پڑھے لکھے، ناخواندہ اور جاہل جو علامہ و فہامہ جیسے القابات سے ملقب ہیں، اور اہل حدیث و تبلیغی جماعت کے مبلغین کی حیثیت سے فرزند ان اسلام کو دعوت تبلیغ دیتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کے ان اظہار تشکر و مسرت کو دیکھ کر غیظ و غضب سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان شکر گزار بندوں پر طعن و تشیع کے تیروں کی موسلا دھار بارش شروع کر دیتے ہیں۔

الحاصل! قرآنی آیات، نبوی ارشادات، اعمال صحابہ، اقوال بزرگان، تحریرات علمائے متقدمین اور کتب سلف و صالحین سے ثابت ہے کہ اس مبارک دن میں خوشیاں منانا، جلسہ و جلوس نکالنا، گھروں میں چراغاں کرنا، شیرینی باٹنا، وغیرہ امور باعث اجر و ثواب ہے۔ جسے بدعت و حرام اور شرک کہنا شریعت مطہرہ پر افتراء ہے۔

کوشش کی ہے۔ کتاب کو دیکھنے کے بعد، دل کی اتھاہ گہرائی سے بے شمار دعائیں نکلیں، خدائے تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں۔

عزیزم مولانا عاقب سلمہ الباری سے دارالعلوم امام احمد رضا کوکن میں چند ملاقاتیں ہوئی، دینی و ملی اور اصلاحی جذبات دیکھ کر بے پناہ مسرت ہوئی، لکھنے پڑھنے کا کافی شوق و ذوق ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصنیفات سے کافی دلچسپی ہے۔ اسی لئے کتاب پر مشتمل حوالہ جات بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کے مآخذ و مراجع ہی کو اپنایا ہے۔

کتاب اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی کارگر اور مفید ہے، جس سے عوام و خواص سبھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سلمہ کی اس کاوش کو مولیٰ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اور ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور دشمنوں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ بجاہ حبیبہ الکریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔

دعا گو

خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ اور

خانقاہ رضویہ نوریہ بریلی شریف

کادنی سوالی

مورخہ: ۲۰ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ

مطابق: ۱۱ اپریل ۲۰۰۴ء

عبدالستار ہمدانی ”مصروف“ برکاتی نوری

آج یہ کہنا کہ جشن عید میلاد منانا صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا اپنا اختراع ہے۔ بالکل غلط ہے، جبکہ بے شمار ائمہ متقدمین نے میلاد مبارک کے موضوع پر نادر زمن اور آیات و احادیث سے مدلل و مبرہن کتب تصنیف فرمائیں اور مسئلہ میلاد کو بالکل واشگاف فرمادیا۔ ہاں.....!!
مجدد دین و ملت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا نے اس وقت اپنا قلم اٹھایا جس وقت وہابی، تبلیغی، اہلحدیث اور دیگر فرق باطلہ کے لوگوں نے میلاد کو ناجائز و حرام اور شرک و بدعت کہا، دیوانگان مصطفیٰ کے دلوں کو گھائل کیا، علمائے متقدمین اور سلف و صالحین کے اعمال کو بے بنیاد کہا، تو اس وقت امام اہل سنت نے متعدد کتابیں اس قوم کو عطا فرمائی۔ ہر ایک دلائل و براہین سے مدلل و مبرہن ہے۔ ان میں چند کے اسمائے گرامی ذیل میں درج ہیں۔

(۱) الإقامة القيامة على طاعن القيام لبني التهامية

(۲) الجزاء المهيأ لغلظة كنهيا

(۳) النعيم المقيم في فرحة مولد النبي الكريم

(۴) إشاعة الكلام في حواشي اذاعة أنام

(۵) الميلاد النبوية في الالفاظ الرضوية

(۶) الموهبة الجديدة في وجود الحبيب بمواضع عديدة

(۷) النذير الهائل لكل جلف جاهل

اس موضوع پر عزیزم مولانا عاقب شافعی سلمہ الباری نے بھی زیر نظر کتاب میں بہت خوب لکھا ہے اور بزرگوں کے سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور

نحمدہ و نصلی و نسلم علیٰ رسولہ الکریم والہ الکرام اجمعین

آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کا یہ معمول ہے کہ ہر سال ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی پیدائش کی یاد مناتے ہیں، قرآن خوانی، ذکر الہی، نعت خوانی اور درود پاک وغیرہ کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، آپ ﷺ کی سیرت پاک بیان کی جاتی ہے، جگہ جگہ روشنی اور سجاوٹ وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔

اس زمانے میں میلاد النبی ﷺ منانے کے سلسلے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفلیں منعقد کرنا، شب میلاد جاگ کر عبادت میں گزارنا، نیاز کا اہتمام کرنا، چراغاں کرنا وغیرہ تمام چیزیں ناجائز و حرام، بدعت بلکہ شرک ہیں، لوگوں کو ان بری رسومات سے روکا جائے، جیسا کہ یہی عقیدہ دیوبندیوں اور تبلیغی جماعت والوں (جو دیوبندی عقائد کی ماننے والی جماعت ہے) کا ہے چنانچہ دیوبندیوں کی مشہور و مستند کتاب 'براہین قاطعہ' میں ہے "یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے کہ سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں یا مثل روافض کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں"۔

(حوالہ:- براہین قاطعہ، صفحہ ۱۵۲، مطبوعہ: کتب خانہ امدادیہ، دیوبند، یوپی۔)

مذکورہ بالا عبارت سے دیوبندی اور تبلیغی جماعت کا یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ ان کے نزدیک میلاد النبی ﷺ منانا ایسا ہے جیسے ہندوؤں کا ہر سال ان کے

کنہیا کا جنم دن منانا یا جیسے شیعوں کا ماہ محرم میں ماتم وغیرہ خرافات کرنا جو سراسر گمراہی ہے۔

ان کے علاوہ غیر مقلدین جو اپنے کو اہلحدیث کہلاتے ہیں، اس مسئلہ میں دیوبندیوں کا ساعتیہ رکھتے ہیں، بلکہ میلاد النبی ﷺ منانے کی مخالفت میں دیوبندیوں سے بھی چار قدم آگے ہیں، اور یہ ساری باتیں کسی پر پوشیدہ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اختلافات کے دور میں سادہ لوح مسلمان کس کی سنیں؟ کہاں جائیں؟ اور کیا کریں؟

تو مسلمانو!! گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا قرآن جو آج بھی ہمارا راہ نما ہے اور صبح قیامت تک ہمارے لیے سامان ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ شریف میں ہے۔

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“

”اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔“ (کنز الایمان)

اور ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کا انعام خاص انبیاء کرام، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین عظام و جملہ اولیاء و محدثین ذوی الاحترام پر ہوا جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے۔

”أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا“ (سورہ نساء، آیت نمبر ۶۹)

ترجمہ:

”جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء و صدیقین و شہد اور نیک لوگ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔“

(کنز الایمان)

الحمد للہ! ہم امام الائمہ، ناصر الحدیث، محمد ابن ادریس شافعی مطلقاً عربی رحمة الله عليه اور ان کے مسلک کے ماننے والے ہیں اور ہمارے مسلک شافعی میں جتنے علماء، محدثین، فقہاء اور اولیاء گذرے ہیں ہم انہیں کے راستے پر ہیں، آج سے پچاس سال قبل ہمارے خطہ کوکن میں وہابی، تبلیغی اور نام نہاد اہلحدیث وغیرہ نئے فرقوں کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے۔ سب کا مسلک، عقیدہ اور راستہ ایک ہی تھا، وہی راستہ جو ہمارے علماء شافعیہ اور امام شافعی علیہم الرحمة کا راستہ ہے، میلاد النبی ﷺ کے مسئلہ میں بھی ہمارے شوافع علماء کا جو عقیدہ تھا پیشک وہی عقیدہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔

تو آئیے! ہم شوافع علماء کی کتابوں کی روشنی میں معلوم کریں کہ ان کا میلاد النبی ﷺ سے متعلق کیا عقیدہ ہے، تاکہ ہم آج کل کے نئے اختلافات میں نہ پڑتے ہوئے ہمارے شوافع علماء کے عقائد کو اپنائیں اور صراط مستقیم پر قائم رہیں۔

خیال رہے کہ چاروں مسلک کے ائمہ و علماء کا اختلاف صرف فرعی مسائل میں ہے، رہا عقیدہ تو چاروں مسلک کے ائمہ و علماء سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، وہی عقیدہ جو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔

مناسب ہوگا کہ سب سے پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ’عید‘ کا لغت میں کیا معنی ہے، تو اس سلسلے میں ایک جلیل القدر شافعی مفسر و محدث امام ابو محمد حسین ابن مسعود فرما بغوی رحمة الله عليه المتوفی ۵۱۶ھ کی مشہور کتاب ’معالم التنزیل‘ کا مطالعہ کیا گیا تو ہمیں یہ عبارت ملی۔

”الْعِيدُ : يَوْمُ الشُّرُورِ وَ سُمِّيَ بِهِ لِلْعَوْدِ مِنَ التَّرْحِ إِلَى الْفَرْحِ وَ هُوَ اسْمٌ لِمَا عْتَدْتَهُ وَ يَعُوذُ إِلَيْكَ وَ سُمِّيَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لِأَضْحَى عِيداً لِأَنَّهَا يَعُودَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ“

ترجمہ:

”عید خوشی کا دن ہے اور عید کا نام عید غم سے خوشی کی طرف لوٹنے کی وجہ سے رکھا گیا اور عید ہر اس خوشی کی چیز کو کہتے ہیں جو مقرر کی گئی ہو اور تیری طرف بار بار لوٹے اور فطر واضحی کے دنوں کو بھی عید اسی لئے کہا گیا کہ یہ دونوں ہر سال لوٹتے ہیں۔ (حوالہ: تفسیر معالم التنزیل (تفسیر البغوی)، جلد دوم، صفحہ ۶۸، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت، لبنان۔)

مذکورہ عبارت سے پتہ چلا کہ جو خوشی کا دن بار بار ایک مقررہ وقت کے بعد ہمیں نصیب ہوا سے ’’عید‘‘ کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ان کے ہر سال آنے کی وجہ سے ’’عید‘‘ کہا گیا، اسی طرح جمعہ کے دن کو ہفتہ کی عید کہتے ہیں اس لئے کہ یہ مومنوں کے لئے خوشی کا دن ہے اور بار بار یعنی ہر ہفتہ آتا ہے۔

میلاد النبی ﷺ کا دن بھی بار بار یعنی ہر سال آتا ہے اور چونکہ اس دن ہمارے نبی کریم ﷺ دنیا میں تشریف لائے، آپ ﷺ کے ذریعے اللہ تبارک و

تعالیٰ نے ہمیں اسلام و ایمان کی دولت سے نوازا۔ آپ ﷺ نہ آتے تو نہ معلوم آج ہم گمراہی کے کس اندھیرے غار میں پڑے رہتے اور نہ جانے بربریت کے کس جنگل میں بھٹک رہے ہوتے، پیارے نبی ﷺ نے ہمیں انسانیت کا سلیقہ سکھایا، انسان انسان ہوتے ہوئے بھی جانوروں سے بدتر ہو گیا تھا رسول اللہ ﷺ نے اسے صحیح انسان بنایا، جہنم سے بچایا، جنت کی راہ پر گامزن کیا اور انسان کا رتبہ اوج ثریا سے بھی بلند فرمایا۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

خاک کے ذروں کو ہم دوشِ ثریا کر دیا

آپ ﷺ ہی کے ذریعے ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا شعور اور علم و عرفان ملا، قرآن ملا بلکہ خدائے رحیم و رحمن ملا، غرض کہ سب کچھ ملا، اس طرح آپ ﷺ ہمارے لئے سب سے بڑی نعمت ٹھہرے، حدیث شریف میں آیا کہ حضور ﷺ اللہ کی نعمت ہیں۔ (بخاری شریف، جلد دوم، صفحہ ۵۶۶، مطبوعہ: فاروقیہ بکڈ پو، ٹیامل، دہلی، انڈیا۔)

اور سب سے زیادہ خوشی سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر ہوتی ہے، لہذا حضور ﷺ کی پیدائش کا دن ہمارے لئے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوا اور یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے، تو کیا میلاد کے دن کو ”عید“ کہا جاسکتا ہے؟ حالانکہ امام بغوی شافعی علیہ الرحمۃ کی مذکورہ بالا تحریر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ میلاد النبی ﷺ کا دن بھی حقیقی معنی میں عید کہلانے کا مستحق ہے۔

اس پر بھی علماء شافعیہ کثرتہم اللہ کی طرف رجوع کیا گیا تو ہمیں فقیر شافعی، شارح بخاری، محدث زمانہ، حضرت علامہ امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی مصری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۹۲۳ھ کی ایک عبارت ملی، آپ اپنی کتاب میں رقمطراز ہیں:

”فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اتَّخَذَ لِيَالِي شَهْرٍ مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا“

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے جو حضور ﷺ کی میلاد

کی مبارک راتوں کو خوشی و مسرت کی عیدیں بنائے۔“

(حوالہ: الْمَوَاهِبُ اللَّذْنِيَّةُ بِالْمَنْحِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، جلد اول صفحہ ۱۲۸، مطبوعہ: مرکز اہلسنت برکات رضا، پور بندر، گجرات، انڈیا۔)

شافعی المسلک محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ حوالہ سے ثابت ہوا کہ میلاد النبی ﷺ کے دن کو بھی عید کہنا جائز ہے۔

ماہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو ہمارے رسول ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی اور یہی زیادہ صحیح ہے، اسی لئے بارہ تاریخ کی شب مبارک کو محفل میلاد کا بالخصوص اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ تاریخ و سیاست کے اہل تحقیق فقیر شافعی امام ابوالحسین علی ابن محمد ماوردی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۴۵۰ھ تحریر فرماتے ہیں۔

”وُلِدَ ﷺ بَعْدَ خَمْسِينَ يَوْمًا مِنَ الْفَيْلِ وَبَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ الْثَانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْاَوَّلِ“

ترجمہ:

رسول ﷺ واقعہ فیل کے پچاس دن کے بعد اور اپنے والد کی

وفات کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں بارہویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔

(حوالہ: اعلام النبوة، صفحہ ۲۷۰، مطبوعہ: دارالکتب العربی، بیروت، لبنان۔)

ان کے علاوہ امت کے اکثر علماء و مؤرخین کے نزدیک بارہ تاریخ ہی ولادت شریف کی صحیح تاریخ ہے، ہم نے کتابوں میں پایا اور آج ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ شروع زمانہ سے آج تک تمام عالم میں مسلمان بارہویں تاریخ ہی کو یوم ولادت مناتے ہیں، اسی لئے آج شام، مصر، سوڈان، یمن وغیرہ اسلامی ممالک میں حکومت کی جانب سے ولادت نبوی ﷺ کی خوشی میں بارہویں ربیع الاول کو تعطیل ہوتی ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان کی حکومت نے مسلمانوں کو ان کے پیغمبر ﷺ کی ولادت کی یاد اور خوشی منانے کے لئے ربیع الاول کی بارہویں تاریخ کو چھٹی مقرر کی ہے۔

مگر اب بھی سوال باقی ہے کہ آیا عید میلاد النبی ﷺ منانا جائز و مستحب

ہے یا ناجائز و حرام اور بدعت و شرک ہے؟

اس کا جواب شوافع علماء و ائمہ کثر ہم اللہ کی کتابوں میں تلاش کیا گیا تو

نویں صدی ہجری کے مجدد، اپنے وقت کے علم حدیث کے امام اور اپنے زمانہ کے فقہ شافعی کے سب سے بڑے عالم بلکہ اپنے زمانہ میں تمام اولیاء کے سردار یعنی

حضرت علامہ امام ابو الفضل عبدالرحمن جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۹۱۱ھ کا ایک فتویٰ نظر سے گذرا، ذیل میں اس فتویٰ کو مع ترجمہ و حوالہ نقل

کیا جاتا ہے۔

”سُئِلَ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ (ﷺ) فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ مَا حُكِمَهُ مِنْ

حَيْثُ الشَّرْعُ؟ وَهَلْ هُوَ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ؟ وَهَلْ يُنَابُ فَاعِلُهُ أَوْ لَا؟

ربیع الاول کے مہینے میں میلاد النبی ﷺ کے منانے کے بارے میں

پوچھا گیا کہ شریعت اسلامی میں اس کا کیا حکم ہے، آیا میلاد منانا قابل تعریف ہے یا مذموم؟ اور میلاد منانے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟

اس سوال کا جواب یعنی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کا فتویٰ

ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا

وصال ۹۱۱ھ میں ہوا اور بریلی کے مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ کی پیدائش

۱۲۷۲ھ میں ہوئی یعنی امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کے وصال کے

ٹھیک تین سو اسی سال بعد مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ بریلی میں

پیدا ہوئے، اب علامہ امام سیوطی شافعی علیہ الرحمۃ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

”الْجَوَابُ : عِنْدِي أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ

النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ

النَّبِيِّ ﷺ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدِّلُهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُونَهُ

وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُنَابُ

عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَافِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ

وَالِاسْتِشْهَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ“

میرے نزدیک میلاد النبی ﷺ جو کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن سے جو میسر آئے اس کی تلاوت کرنا، نبی کریم ﷺ کی تخلیق میں وارد احادیث کو بیان کرنا وغیرہ اور آپ ﷺ کی میلاد میں واقع قرآنی آیات کو بیان کرنا، پھر حاضرین کے لئے (نیاز و نلگر کا) دسترخوان بچھایا جاتا ہے، جس پر وہ لوگ کھاتے ہیں اور بغیر زیادتی کے اس پر خرچ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بدعات حسنہ میں سے ہیں جن کا کرنے والا ان کے کرنے کے سبب ثواب پاتا ہے اس لئے کہ اس میں نبی ﷺ کے مرتبے کی تعظیم ہے اور آپ ﷺ کی میلاد شریف سے خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا ہے۔

(حوالہ: الحاوی للفتاویٰ، جلد اول صفحہ ۱۸۹، مطبوعہ: دارالکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔)

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمارے لئے پتھر کی لکیر کی حیثیت رکھتی ہے، اس فتویٰ میں آپ نے میلاد النبی ﷺ کے موقع پر لوگوں کا جمع ہو کر محفلیں منعقد کرنا، قرآن خوانی کرنا، حضور ﷺ کی میلاد پاک پڑھنا، احادیث و قرآنی آیات کو بیان کر کے ان کی تشریح و تفسیر بیان کرنا، پھر نیاز کا اہتمام کرنا اور کھانے کا انتظام کرنا وغیرہ ان تمام باتوں کو ”بدعات حسنہ“ یعنی اچھی بدعتوں میں شمار کیا ہے، نیز فرمایا کہ ان کے کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔

مکہ مکرمہ کے فقہ شافعی کے استاذ، آل رسول، حضرت العلام، الشیخ سید ابو بکر ابن محمد شطاد میاٹی شافعی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنی شافعی مسائل پر

مشمتمل مشہور زمانہ کتاب ”اعانة الطالبین علی حلّ الفاظ فتح المعین“ (جو مصر، شام اور کیرالا کے شوافع علماء کے نزدیک بڑی مستند کتاب سمجھی جاتی ہے) میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کے اس مبارک فتوے کو نقل فرمایا اور اس کے علاوہ دیگر جلیل القدر علماء شافعیہ وغیرہم کے حوالوں سے میلاد النبی ﷺ منانے کو جائز کہا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔

(حوالہ: اعانة الطالبین، جلد ۳، صفحہ ۴۱۳، ۴۱۴، مطبوعہ: دار الفکر، بیروت، لبنان۔)

ان کے علاوہ شافعی مسلک کے ایک بہت ہی جلیل القدر محدث، امام

شہاب الدین احمد ابن محمد خطیب قسطلانی مصری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۹۲۳ھ

(جن کا ایک حوالہ ابھی ماقبل میں گذرا) جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ نہ صرف شافعی

مسلک بلکہ حنفی، مالکی اور حنبلی مسلک کے علماء بھی عقائد سے متعلق ان کے حوالوں کو

اپنی کتابوں میں اندراج فرماتے ہیں اور انہیں مستند و معتمد مانتے ہیں، آپ کا

وصال امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ کے وصال کے بارہ سال بعد

۹۲۳ھ میں ہوا، آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب ”المواہب اللدنیة بالمنح

المحمديّة“ میں میلاد شریف منانے سے متعلق اپنا خیال اور اپنا عقیدہ بیان

کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

”وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ ﷺ يَعْمَلُونَ

الْوَلَائِمَ وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيْالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ وَيُظَهَرُونَ السُّرُورَ

وَيَزِيدُونَ فِي الْمُبَرَّاتِ وَيَعْتَنُونَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيمِ وَيُظَهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ

بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيمٍ وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ
الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٍ بِنَيْلِ الْبُعْيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً اتَّخَذَ لَيْلَى شَهْرٍ
مَوْلِدِهِ الْمُبَارَكِ أَعْيَادًا لِيَكُونَ أَشَدَّ عِلَّةً عَلَيَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

ترجمہ:

حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے
میلا کی محفلیں منعقد کرتے چلے آئے ہیں اور خوشی کے ساتھ کھانے پکاتے (نیاز
کے طور پر) دعوتیں کرتے، اور ان راتوں میں قسم قسم کے صدقے و خیرات کرتے
اور خوشی و مسرت کا اظہار کرتے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور
آپ ﷺ کی میلا د شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان پر
اللہ کے فضل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے اور میلا د شریف کے خواص میں سے
آزمایا گیا ہے کہ جس سال میلا د شریف پڑھا جاتا ہے وہ سال مسلمانوں کے لئے
حفظ و امان کا سال ہوتا ہے اور میلا د پاک سے دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ
تعالیٰ اس بندے پر رحمتیں نازل فرمائے جو حضور ﷺ کی میلا د کی مبارک راتوں کو
خوشی اور مسرت کی عیدیں بنائے تاکہ یہ میلا د پاک سخت ترین علت و مصیبت
ہو جائے اس پر جس کے دل میں بیماری ہے۔

(حوالہ: المواہب اللدنیة، جلد اول، صفحہ ۱۴۸، مطبوعہ: مرکز اہلسنت برکات
رضا، پور بندر، گجرات، انڈیا۔)

امام جلال الدین سیوطی شافعی اور امام قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہما
ان دونوں جلیل الشان علماء شافعیہ کی عبارتوں سے یعنی امام جلال الدین سیوطی

رحمة الله عليه کے مبارک فتوے اور امام قسطلانی علیہ الرحمۃ کی مذکورہ بالہ
عبارت سے ثابت ہوا کہ ماہ ربیع الاول میں میلا د پاک کی محفلوں کا انعقاد کرنا،
ذکر میلا د کرنا، کھانا پکا کر دعوتیں کرنا ”اچھی بدعتیں“ ہیں، ان کا کرنے والا ثواب کا
حقدار ہے اور یہ اہل اسلام کا دیرینہ طریقہ رہا ہے، ان امور کی بدولت ان پر اللہ
تعالیٰ کے فضل عمیم اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، محفل میلا د کی برکتوں سے سارا سال
امن و امان سے گذرتا ہے اور دلی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور ماہ میلا د کی راتوں کو
عید منانے والوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور ماہ ربیع الاول شریف کی یہ خوشیاں اور
عیدیں ان لوگوں کے لئے سخت مصیبت ہیں جن کے دلوں میں دشمنی و عناد اور
عداوت رسول ﷺ کی بیماری ہے۔

شوافع علماء کی کتابوں میں ایسی بے شمار شہادتیں ملتی ہیں جن سے عید
میلا د النبی ﷺ منانے کا ثبوت ملتا ہے مگر طوالت کے خوف سے اختصار سے کام لیا
گیا ہے اور جتنے حوالہ جات پیش کئے گئے ہیں ایک سمجھدار مسلمان کے لئے کافی
ہیں۔

چودھویں صدی ہجری میں وصال فرمانے والے ایک شافعی المسلک عظیم
الشان عالم دین جن کی ولایت و بزرگی پر سب کا اتفاق ہے اور جو سلطنت عثمانیہ کی
طرف سے حریم طہیین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ وغیرہ کے قاضی القضاة بھی
تھے جن کا فتویٰ اپنے وقت کا بادشاہ اسلام بھی مانتا تھا اور زمانے کے بڑے بڑے
علماء و فضلاء ان کے آگے زانوائے ادب تہ کرتے نظر آتے تھے، یعنی خاتمہ

المحدثین، زین الحرم، عین الکریم، علامہ سید احمد ابن زینی دحلان شافعی قُدس سرُّہ المتوفی ۱۳۰۲ھ اپنی مشہور کتاب ”الدُرَرُ السُّنِّيَّةُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْوَهَابِيَّةِ“ میں میلاد شریف سے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

”مِنْ تَعْظِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَرْحُ بِلَيْلَةِ وِلَادَتِهِ وَقِرَاءَةُ الْمَوْلِدِ وَالْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ ﷺ وَاطْعَامُ الطَّعَامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَعْنَادُ النَّاسُ فِعْلَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ، فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ تَعْظِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ افْرَدَتْ مَسْئَلَةُ الْمَوْلِدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بِالتَّائِيْفِ وَاعْتَنَى بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فَالْتَمَوْا فِي ذَلِكَ مُصَنَّفَاتٍ مَشْحُوفَةً بِالْأَدِلَّةِ وَالْبَرَاهِينِ فَلَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى الْإِطَالَةِ بِذَلِكَ.“

ترجمہ

میلاد کی رات خوشی کا اظہار کرنا، میلاد شریف پڑھنا، ولادت کے ذکر کے وقت (تعظیماً) کھڑا ہونا، مجلس میں حاضرین کو کھانا (لنگر و نیاز وغیرہ) کھلانا اور ان کے علاوہ نیکی کی باتیں جو مسلمانوں میں رائج ہیں یہ ساری باتیں نبی ﷺ کی تعظیم سے ہیں اور مجلس میلاد اور جو باتیں اس سے متعلق ہیں ان کا مسئلہ ایسا ہے جس کے متعلق مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور کثرت سے علماء دین نے اس کا اہتمام فرمایا اور (قرآن و احادیث وغیرہ کے) دلائل و براہین سے بھری کتابیں اس سے متعلق تالیف فرمائیں تو ہمیں اس مسئلہ کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔

(حوالہ: الدرر السنیة بحوالہ اِقَامَةُ الْقِيَامَةِ، صفحہ ۲۳، رضا الکیڈمی، ۲۶، کامبیکر اسٹریٹ، ممبئی ۳۔)

علامہ احمد ابن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے مزید یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد اور اس کے متعلقات کے جائز و مستحب ہونے کے ثبوت پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، امت کے علماء نے خود اسے منعقد کیا، اس کو دلائل و براہین سے ثابت فرمایا اور ایسے دلائل دیے کہ اب مزید اس پر دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ ساتھ ہی مذکورہ عبارت میں ”وَالْقِيَامُ عِنْدَ ذِكْرِ وِلَادَتِهِ“ (اور آپ کی میلاد پڑھنے کے وقت تعظیماً کھڑا ہونا) سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کے ذکر کے وقت تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جیسا کہ صلوة و سلام کے وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں جائز و مستحسن ہے اور یہ حضور ﷺ کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔

اس تعلق سے جب ہم نے دیگر شوافع علماء کا نعت شریف یا صلوة و سلام کے وقت کھڑے ہونے کے بارے میں مسلک معلوم کرنا چاہا اور تلاش کیا تو آٹھویں صدی ہجری کے مجدد، اپنے زمانے میں امام شافعی علیہ الرحمۃ کے جانشین یعنی حضرت علامہ امام تقی الدین علی ابن عبد الکافی سبکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی ۷۵۶ھ کا حوالہ ملا۔ آپ دین کے امام، پیشوا، مجتہد اور تقریباً ایک سو پچاس کتابوں کے مصنف ہیں، آپ ہی کے لڑکے امام تاج الدین عبد الوہاب سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۸۷۷ھ اپنی کتاب ”طبقات الشافعیۃ الکبریٰ“ میں تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جامع اموی (مسجد) میں امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمۃ تشریف فرما تھے، حضرت کی خدمت میں بڑے

بڑے علماء، صالحین اور اعیان سلطنت حاضر تھے، اس مجمع میں ایک نعت خواں نے جب نعت شریف کے دو اشعار پڑھے جس کا دوسرا شعر یہ تھا۔

وَأَنْ يَنْهَضَ الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ
فِي مَآ صُفُوفًا أَوْ جَيْبًا عَلَى الرَّكْبِ

”اور عزت و شرف والے لوگ حضور ﷺ کا ذکر جمیل سن کر صرف بستہ

کھڑے ہوتے ہیں یا گھٹنوں پر دوزانو ہو جاتے ہیں۔“

پھر اس کے آگے کا حال بیان فرماتے ہیں۔

”حَصَلَتْ لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ حَالَةٌ، وَقَامَ وَافِقًا فِي الْحَالِ، فَاحْتَجَّ

النَّاسُ كُلَّهُمْ أَنْ يَقُومُوا، فَقَامُوا أَجْمَعُونَ وَحَصَلَتْ سَاعَةٌ طَيِّبَةٌ“

”شیخ امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمۃ پر ایک کیفیت طاری

ہوگئی آپ اسی کیفیت کے عالم میں کھڑے ہو گئے تو سب لوگوں نے بھی کھڑے

ہونے کی ضرورت محسوس کی، پھر سب لوگ (جن میں علماء و قضاة اور حکومت کے

سربراہ اور وہ لوگ بھی تھے) کھڑے ہو گئے، تو اس طرح بڑی پاکیزہ ساعت نصیب

ہوئی۔“

(حوالہ: طبقات الشافعية الكبرى جلد ۱، صفحہ ۲۰۸، مطبوعہ: دارالاحیاء الکتب

العربیہ، قاہرہ، مصر۔)

امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ہر عمل ہمارے لئے لائق

تقلید ہے، آپ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ خاص ذکر رسول ﷺ کے وقت تعظیم

کے لئے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ تفسیر روح البیان، میں علامہ

اسمعیل حقی علیہ الرحمۃ المتوفی ۱۱۳۰ھ ہجری اور علامہ علی ابن برہان الدین حلبی

شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۰۴۴ھ نے اپنی کتاب ’انسان العیون‘،

(سیرت حلبیہ) میں بھی امام تقی الدین سبکی شافعی علیہ الرحمۃ کا مذکورہ بالا واقعہ

بالفاظ دیگر نقل فرمایا ہے، ساتھ ہی دونوں کتابوں میں اس جملہ کا اضافہ ہے

”وَيَكْفِي مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْإِقْتِدَاءِ“۔

”اور اس قسم کے واقعات مشائخ و علماء کی اقتداء کے بارے میں

کافی ہوتے ہیں۔“

(حوالہ: تفسیر روح البیان، جلد نہم، صفحہ ۵۶، مطبوعہ: داراحیاء التراث العربی،

بیروت، لبنان۔ ۲: انسان العیون (سیرت حلبیہ)، جلد اول، صفحہ ۸۴، مطبوعہ: ایضاً)

یعنی ہمیں پیروی کے لئے اتنا کافی ہے کہ ایک اللہ کا ولی، اتنا بڑا عالم، مجتہد

اور شافعی فقیہ ایسا کر رہا ہے تو ضرور یہ کام جائز اور بہتر ہے، تو پتہ چلا کہ ہمارے

لئے صلوة و سلام کے وقت تعظیم کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ

عمل مستحب اور باعث برکت ہے۔

مذکورہ بالا حوالوں کے علاوہ علامہ مفتی عمر ابن ابی بکر شافعی، مدرس مسجد

نبوی مولینا محمد ابن محمد ابن محمد غرب شافعی، مولینا ابراہیم ابن محمد خیار حسینی شافعی اور

حافظ الحدیث علامہ ناصر الدین دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ان

کے علاوہ بے شمار شوافع علماء نے میلاد و قیام کے مستحب و مستحسن ہونے کی تصریح

فرمائی بلکہ میلاد و قیام کے ثبوت پر اور اس پر کئے جانے والے اعتراضات کے جوابات میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔

اب تک کی گفتگو سے میلاد و قیام کا جائز و مستحب ہونا ثابت ہوا، رہے عید میلاد النبی ﷺ کو بدعت و شرک کہنے والے اور اس عمل سے لوگوں کو روکنے والے، تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ عید میلاد کو بدعت سیئہ کہنے والے کچھ لوگ آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں بھی تھے اگرچہ دال میں نمک کی مقدار سے بھی کم تھے، تو اس زمانہ کے شوافع علماء نے ایسوں کے تعلق سے کیا رویہ اپنایا؟

تو آئیے! مشہور مورخ و سیرت نگار شافعی المسلک عالم دین علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۱۰۴۲ھ کی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

وَقَدِ اسْتَخْرَجَ لَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ أَصْلًا مِّنَ السُّنَنِ وَكَذَا الْحَافِظُ الشُّيْطِيُّ وَرَدَا عَلَى الْفَاكِهَانِيِّ الْمَالِكِيِّ فِي قَوْلِهِ إِنَّ عَمَلَ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ

ترجمہ: ”حافظ الحدیث علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی اور حافظ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رَحِمَهُمَا اللَّهُ نے میلاد کی اصل سنت سے ثابت کی ہیں اور فاکہانی مالکی (منکر میلاد) کا اس کے اس قول میں کہ ’میلاد شریف بدعت سیئہ ہے رد کیا۔“

(حوالہ: انسان العیون (سیرت حلبیہ) جلد اول، صفحہ ۸۴، مطبوعہ: دار احیاء

التراث العربی، بیروت، لبنان۔)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے وقت کے محدث اعظم، شارح بخاری، فقیہ زمانہ، جبریتامہ، علامہ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۸۵۲ھ دونوں حضرات نے نہ صرف عید میلاد شریف کو جائز و مستحب قرار دیا بلکہ حدیث رسول ﷺ سے اس کی اصل نکالی اور میلاد شریف کے منکرین کی تردید و مخالفت کی کہ یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ یعنی اچھی اور ثواب کی باعث ہے۔

ہمارے علماء نے صرف اتنی ہی تردید پر بس نہیں کیا بلکہ آئیے! آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا فتویٰ پیش کیا جاتا ہے جو تیرہویں صدی ہجری کے چاروں مسلک کے حریم شریفین کے علماء و مفتیان کرام کا بالاتفاق فتویٰ ہے اور اس فتویٰ پر مفتی شافعیہ، قاضی القضاة سید العلماء، سند الفضلاء، علامہ سید احمد ابن زینی دحلان شافعی علیہ الرحمۃ اور علامہ ابراہیم ابن خیار شافعی علیہ الرحمۃ جیسے جلیل القدر شوافع مفتیان کرام کثر ہم اللہ کی دستخطیں اور تصدیقی مہریں ہیں اور ساتھ ہی مفتی حنفیہ علامہ عبدالرحمن سراج، مفتی حنبلیہ علامۃ الشیخ حسن اور مفتی مالکیہ علامہ ثرانی وغیرہم چاروں مسلک کے تقریباً پینتالیس (۲۵) علماء امت رحمہم اللہ کی تصدیقی مہریں ہیں، فتویٰ ملاحظہ ہو:

”فَالْمُنْكَرُ لِهَذَا مُبْتَدِعٌ بِدْعَةٍ سَيِّئَةٍ مَذْمُومَةٍ لِانْكَارِهِ عَلَيَّ شَيْءٍ حَسَنٍ عِنْدَ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ [مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ] وَالْمُرَادُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هَهُنَا الَّذِينَ كَمَلُوا الْإِسْلَامَ كَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ ، وَعُلَمَاءِ الْعَرَبِ وَالْمِصْرِ وَالشَّامِ وَالرُّومِ وَالْأَنْدَلُسِ كُلُّهُمْ رَأَوْهُ حَسَنًا مِنْ زَمَانِ السَّلَفِ إِلَى الْآنِ فَصَارَ الْإِجْمَاعُ وَالْأَمْرُ الَّذِي ثَبَتَ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ فَهُوَ حَقٌّ لَيْسَ بِضَلَالٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [لَا يَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الضَّلَالَةِ] فَعَلَى حَاكِمِ الشَّرِيعَةِ تَعَزِيرُ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

ترجمہ: ”پس مجلس (میلاد) و قیام کا منکر بدعتی ہے اس منکر کی بدعت سیئہ مذمومہ، کہ اس نے ایسی چیز کا انکار کیا جو خدا و اہل اسلام کے نزدیک نیک تھی جیسا کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا ہے کہ ”جس چیز کو مسلمان نیک اعتقاد کریں وہ خدا کے نزدیک نیک ہے“ اور یہاں مسلمانوں سے کامل مسلمان مراد ہیں جیسے علماء باعمل اور مجلس میلاد و قیام کو علماء عرب و مصر و شام و روم و اندلس (موجودہ اسپین و پرتگال) نے سلف سے آج تک مستحسن جانا تو اجماع ہو گیا اور جو امر اجماع امت سے ثابت ہو وہ حق ہے گمراہی نہیں، رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کرتی“ پس حاکم شرع (امیر بادشاہ) پر لازم ہے کہ منکر میلاد و قیام کو سزا دے واللہ تعالیٰ اعلم۔“ (حوالہ: اقامۃ القیامہ، صفحہ ۲۹-۳۰، مطبوعہ: رضا کیڈمی، ۲۶ کا مبیگر اسٹریٹ، ممبئی ۳، انڈیا۔)

مذکورہ فتویٰ چاروں مسلک کے علماء و مفتیان کا متفق علیہ فتویٰ ہے، قارئین اسے دوبارہ پڑھیں اور اچھی طرح سمجھیں، خاص کر اس کے آخری حکم پر

غور کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ میلاد نبی ﷺ اور قیام وغیرہ پر اعتراضات کرنے والے اور ان چیزوں کو منع کرنے والے اور شرک و بدعت کی رٹ لگانے والے اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو بادشاہ اسلام پر اسلامی قانون کے تحت ایسے مجرموں کو سزا دینا واجب ہے۔

لہذا اب یہ بات دن کے اجالے کی طرح ظاہر ہو گئی کہ شوافع علماء و فقہاء اور بزرگوں کا مسلک یہی ہے کہ میلاد شریف منانا اور اس سے متعلق نیاز وغیرہ کا اہتمام کرنا جائز بلکہ مستحب اور باعث برکت و ثواب ہے، اور نبی ﷺ کے ذکر کے وقت یعنی صلوٰۃ و سلام وغیرہ کے وقت تعظیم کھڑا ہونا اچھا، کارِ ثواب اور پسندیدہ عمل ہے، اور ان معمولات کا انکار کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں بلکہ خود بدعتی ہیں اور حاکم اسلام پر ان کو ان کے انکار کے سبب سزا دینا واجب ہے اس لئے کہ میلاد اور اس سے متعلق چیزوں میں ہمارے آقا، رسولوں کے سردار، جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی تعظیم ہے اور رسول کی تعظیم کا حکم اور اس کا سلیقہ خود اللہ عزوجل نے ہمیں اپنی کتاب قرآن مقدس میں سکھایا، کہیں فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔ (سورہ حجرات شریف، آیت نمبر ۲۔) (کنز الایمان)

کہیں فرمایا، وَتَعَزَّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ۔ (سورہ فتح شریف، آیت نمبر ۹۔)

ترجمہ: ”اور رسول کی تعظیم تو قیر کرو۔“ (کنز الایمان)

تو کسی مقام پر کامیاب ہونی والوں کی یہ شان بتائی،

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ - (سورہ اعراف، آیت ۱۵۷-)

ترجمہ ”تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں۔“ (کنز الایمان)

اسی لئے شافعی مسلک کے تمام اکابر علماء کرام بلکہ چاروں مسلک کے علماء و مفتیان عظام ذکر نبی ﷺ، میلاد، صلوة و سلام اور قیام تعظیمی کو مستحب و مستحسن فرما رہے ہیں اور سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور ﷺ کی تعظیم و توقیر ہے، اب اگر اس تعظیم کو شرک و بدعت کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور ﷺ کی تعظیم کرنا شرک و بدعت ہے، تو سوائے اس کے اور کیا کہیں کہ

شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب

اس بُرے مذہب پہ لعنت کیجئے

اگر لعنت نہ کریں بلکہ ان کا مسلک صحیح مانیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے مسلک شافعی بلکہ چاروں مسلک کے علماء و ائمہ بدعتی، کافر اور مشرک ہو گئے، (معاذ اللہ) یہاں تک کہ آج سے چالیس، پچاس سال پہلے کے سارے کوئی مسلمان جو بزرگوں کے طریقے پر تھے اور یہ افعال ان کا معمول تھا اور آج کے اکثر لوگوں کے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان میلاد و قیام کے سبب بدعتی، کافر و مشرک ہو گئے۔ ’مشرک‘ بدترین کافر ہوتا ہے، تو آج دنیا میں کتنے مسلمان بچے؟؟ اور کل کتنے تھے؟؟ الامان و الحفیظ۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کو

شافعی المسلک تو کہتے ہیں مگر وہ خود ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو تمام شوافع علماء و ائمہ کے برخلاف ہے اور یہ لوگ ان عقائد کی شوافع حضرات میں تبلیغ بھی کر رہے ہیں، ان کے علاوہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سرے سے کسی امام کو ماننا ہی نہیں، یہ دونوں گروہ مل کر شافعیوں کو مسلک شافعی سے دور کرنا چاہتے ہیں بلکہ صحیح اسلامی عقائد سے محروم کرنے کے درپے ہیں۔

وہ اس طرح کہ یہ لوگ ہمارے شافعی مسلک کے علماء و بزرگوں کو ان کے میلاد و قیام منانے کے سبب گنہگار، بدعتی، کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں سے ان پیشواؤں کی محبت نکل جائے اور ہم ان کا راستہ چھوڑ دیں اور صراط مستقیم سے دور ہو جائیں۔ ان کی یہ سازش صرف کوکن میں شوافع حضرات ہی کو نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں چاروں مسلک کے ماننے والے سنی مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لئے ہوئے ہے۔

اس قسم کی سازشیں اور فتنے کوکن میں پیدا ہونے سے کئی سال پہلے ہندو پاک کے دوسرے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو چکے تھے اور قریب تھا کہ سارے مسلمانوں کو اپنی زد میں لے لیں مگر خدائے رحمن و رحیم کا بے پناہ احسان کہ ان فتنوں کی سرکوبی کے لئے اس نے ایک ایسے عالم دین اور ولی کامل کو پیدا فرمایا جس نے اپنے قلم کی تلوار سے ان اچھے خاصے مسلمانوں کو کافر و مشرک بنانے والوں کا مقابلہ کیا اور ان کے فتنوں کا پردہ فاش کر کے مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائی۔ مثلاً محفل میلاد و قیام سے متعلق جو علماء شافعیہ کے عقائد ہیں بلکہ چاروں مسلک کے علماء کے

عقائد ہیں ان کو قرآن و حدیث اور دیگر دلائل و براہین سے ثابت کیا اور ان معمولات کو شرک و بدعت کہنے والوں کی سخت تردید کی بالخصوص میلاد النبی ﷺ کے اثبات میں ایک کتاب بنام ”نُطْقُ الْهَلَالِ بِأَرْخِ وِلَادَةِ الْحَبِيبِ وَالْوِصَالِ“ اور اسی طرح ایک اور رسالہ بنام ”اِقَامَةُ الْقِيَامَةِ عَلَى طَاعِنِ الْقِيَامِ لِنَبِيِّ التَّهَامَةِ“ تصنیف فرمایا اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ چاروں مسلک کے علماء کے اقوال و افعال سے قیام و میلاد کو ثابت کیا اور بتایا کہ علماء کا یہ عمل باعث برکت و ثواب ہے اور یہ سب شرک و بدعت نہیں بلکہ جو لوگ اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں وہی غلطی پر ہیں، آپ نے میلاد و قیام کو ایسے ٹھوس دلائل سے ثابت کیا جن کا جواب آج تک کوئی منکر نہ دے سکا اور مسلمانوں نے اس عالم دین کے فتاوے اور کتابیں پڑھ کر اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر لیا اور صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔ اس طرح کافی حد تک گمراہوں کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔

کیا آپ اپنے اس محسن کا نام جاننا چاہیں گے؟ جس نے شافعیت کی بلکہ اسلام کی لاج رکھی، وہ عالم دین وہی ہیں جنہیں مخالفین طرح طرح سے بدنام کر رہے ہیں ان کی ذات پر بے جا الزامات کا کچھڑا اچھالا جا رہا ہے اور ان کے تعلق سے طرح طرح کی جھوٹی باتیں لوگوں میں مشہور کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں، کوئی ان کی کتابیں نہ پڑھے اور کوئی ان کی تعلیمات سے آشنا نہ ہو، یوں میدان صاف پا کر دشمن اپنا کام آسانی سے کر جائے، یہ بہت ہی گہری اور خطرناک سازش ہے، مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا ہوگا، اس سازش کو ختم کرنا

ہوگا اور اس مرد مجاہد کا دامن مضبوطی سے تھام کر صراطِ مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ وہ مرد مومن حافظ و قاری، مفتی، علامہ، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، محدث اعظم، مفسر اکرم، ولی کامل، قطب الارشاد، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قُدَسَ سِرُّهُ ہیں۔

آپ فروعی مسائل میں حنفی المسلک تھے مگر آپ کا عقیدہ وہی تھا جو شوافع علماء بلکہ چاروں مسلک کے ائمہ و علماء کا ہے اور وہی عقیدہ صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پیش فرمایا، ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ان کی کسی کتاب یا فتویٰ میں کوئی ایک حرف بھی ایسا دکھا دے جو شوافع علماء کے عقیدہ قطعہ کے برخلاف ہو، بلکہ آپ نے تو اپنے بہت سے عقائد کو شوافع علماء و بزرگوں کے حوالوں سے ثابت فرمایا مثلاً علم غیب رسول ﷺ کے عقیدے کو ثابت کرنے میں اپنی مشہور کتاب ”الْكَوَلَةُ الْمَكِّيَّةُ بِالْمَادَّةِ الْعَنَبِيَّةِ“ میں جہاں دیگر دلائل دیئے ہیں وہیں اسلام کی دو ایسی جلیل القدر شخصیتوں کے حوالے سے اپنا عقیدہ پیش کیا جو دونوں اپنی اپنی جگہ علم و فضل و عرفان کے کوہ ہمالہ ہیں اور دونوں حضرات ہمارے امام شافعی علیہ الرحمة کے مقلدین اور پیروکار ہیں، جن میں سے ایک امام ربانی، شافعی ثانی، فقیہ یگانہ، شارح مسلم امام ابو ذکریا تکی ابن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۶۷۱ھ اور دوسرے مرجع الفقہاء، معتمد الفتاویٰ، خاتم الفقہاء والمحدثین، حجة اللہ فی الارضین امام شہاب الدین احمد ابن حجر پیشی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۷۷۳ھ ہیں۔

(حوالہ: الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیۃ، صفحہ ۲۰۷-۲۰۶، مطبوعہ: قادری بکڈپو، بریلی، انڈیا۔)

اس قسم کی بے شمار مثالیں علامہ موصوف کی کتابوں میں جا بجا پائی جاتی ہیں، خود میلاد النبی ﷺ اور قیام سے متعلق اپنے عقیدہ کو بے شمار شوافع علماء و بزرگان دین کے حوالوں سے ثابت فرمایا، ہماری ان ساری باتوں کی تصدیق کے لئے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، حق و باطل کا فرق خود بہ خود سامنے آجائے گا، اسلام میں غیر مستند سنی سنائی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں بلکہ جس بات کی تحقیق ہو جائے وہی قابل اعتبار و عمل ہے۔ لہذا ان معاملات میں بھی تحقیق و تفتیش ضروری ہے، اسی لئے تو ہم نے اس رسالہ میں شروع سے اخیر تک جو بھی بات پیش کی حوالے کے ساتھ ہی پیش کی بلکہ کتاب کی جلد و صفحہ نمبر اور جس پریس سے کتاب چھپی ہے اس کا مکمل نام و پتہ بھی دے دیا ہے تاکہ اگر کسی کو ہمارے کسی حوالے میں شک ہو یا کوئی مزید تحقیق چاہتا ہو تو اصل کتاب کی طرف آسانی سے رجوع کر سکے۔

”آخری بات“

اے کاش! وہ لوگ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو میلاد شریف اور قیام و سلام جیسے مبارک افعال سے روکتے اور ان کو مشرک و بدعتی بناتے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اپنے عقائد کی درستگی کے بعد شراب، جوا، زنا، چوری، رشوت، جھوٹ، غیبت اور ان جیسی دیگر برائیوں کے مٹانے کے سلسلے میں جد و جہد کرتے۔

اب اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو مسلمانوں کو ہوش میں آنا ضروری ہے اور ان فتنوں اور سازشوں سے اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا لازم ہے ورنہ وہ دن دور نہیں جب قیامت قائم کی جائے گی جس میں ایمان والوں کو جنت اور کافروں کو جہنم میں ہمیشہ کے لئے پہنچا دیا جائے گا۔

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
خدائے قدیر و جبار، مسلمانوں کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید
المرسلین ﷺ۔


فقط والسلام

احقر الطلاب محمد عاقب کھر بے شافی رضوی
متعلم دارالعلوم امام احمد رضا، کونڈیورے، سنگمیشور،

ضلع رتناگیری (کوکن) مہاراشٹر، انڈیا۔

شب دوشنبہ، مورخہ: ۱۷/محرم الحرام ۱۴۲۵ھ

بمطابق ۹ مارچ ۲۰۰۴ء





www.Markazahlesunnat.com

”مأخذ ومراجع“

نمبر	اسم الكتـب	اسم المصنفين
١	القران المجيد	
٢	تفسير معالم التنزيل (تفسير بغوى) المجلد الثاني	امام ابو محمد حسين ابن فراء بغوى شافعي عليه الرحمة المتوفى ٥١٦هـ
٣	تفسير روح البيان المجلد التاسع	علامه اسمعيل حقي عليه الرحمة المتوفى ١١٣٤هـ
٤	الصحيح البخارى الشريف المجلد الثاني	امام ابو عبدالله محمد ابن اسمعيل بخارى رحمة الله عليه المتوفى ٢٥٦هـ
٥	انسان العيون (السيرة الحلبية) المجلد الاول	علامه على ابن برهان الدين حلبى شافعي عليه الرحمة المتوفى ١٠٢٢هـ
٦	المواهب اللدنية بالمنح المحمدية المجلد الاول	شارح بخارى علامه احمد ابن محمد خطيب قسطلاني مصرى شافعي عليه الرحمة المتوفى ٩٢٣هـ
٧	الدرر السننية فى الرد على الوهابية	علامه سيد احمد ابن زيني دحلان شافعي عليه الرحمة المتوفى ١٣٠٢هـ

٨	اعلام النبوة	امام ابو الحسين على ابن محمد ماوردى شافعي عليه الرحمة المتوفى ٢٥٠هـ
٩	الدولة المكية بالمادة الغيبية	مجدد دين وملت امام احمد رضا قادري قدس سره المتوفى ١٣٢٠هـ
١٠	طبقات الشافعية الكبرى المجلد العاشر	امام تاج الدين عبدالوهاب ابن تقى الدين سبكي شافعي عليها الرحمة المتوفى ١١٤٤هـ
١١	الحاوى للفتاوى المجلد الاول	علامه جلال الدين سيوطى شافعي عليه الرحمة المتوفى ٩١١هـ
١٢	اعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين ، المجلد الثالث	علامه سيد ابو بكر ابن محمد شطاد مياطى شافعي عليه الرحمة (من علماء القرن الرابع عشر)
١٣	اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي التهامة	مجدد دين وملت امام احمد رضا قادري قدس سره المتوفى ١٣٢٠هـ
١٤	البراهين القاطعة	خليل احمد انبيطھوى (وهابى)





تقریظ جلیل

مناظر اہل سنت، علامہ عبدالستار ہمدانی صاحب قبلہ

گذشتہ ایام یا شامت اعمال نے آج مسلمانوں کو جس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، وہ کون سی آنکھ ہوگی جو ہماری زبوحالی اور ذلت و رسوائی پر آنسو نہ بہاتی ہو۔ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، حقارت و ہتک، خوار خستگی، بدنامی، بے عزتی، و محرومی کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا کل بھی مسلمانوں کے احوال و کوائف یہی تھے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ انگریزی تہذیب و تمدن ایک فتنہ بارگھا بن کر اٹھ کر عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اکثر ممالک میں یورپی تہذیب اور اجتماعی و معاشرتی مفاسد و شرور کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ شرور و فتن کی لو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی اور دنیا سے امن و امان، چین و سکون، عزت و آبرو، عصمت و عفت کے تاج محل کو جلا کر خاکستر کر دے گی۔

آہ.....!! ایک وہ اسلامی اقبال کا زمانہ تھا کہ مسلمان حیاء و حمیت کے صحیح مسلک پر چلتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ایک غیور مسلمان خاتون کے سر کے بالوں پر ایک نامحرم کی نظر تک نہیں پڑ سکتی تھی۔ اور ایک آج قومی ادبار کا زمانہ ہے کہ ان اقوام کی رسم و عادت کی تقلید کو مایہ فخر و مباہات سمجھا جاتا ہے جن کے نزدیک شرم و حیاء کا

مفہوم ہی نہیں۔ غرض عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ تخلیہ (تنہائی) میں ملنا، بات چیت کرنا، ہاتھ ملانا، خط و کتابت کرنا، ان کے ساتھ ناچنا، شریک سفر ہونا، اور ان کے سامنے نہ صرف ہاتھ پاؤں اور چہرہ بلکہ سینہ اور پنڈلی تک برہنہ رکھنا جائز سمجھتی ہیں۔

یہ افسوس ناک اور الم انگیز حالات ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان مصائب و آلام کی طرف رواں دواں ہیں۔ جب تک مسلمان اسلامی آداب و اطوار سے سختی کیساتھ متمسک تھے، اپنے نبی ﷺ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیراں تھے، اسلامی قوانین کے آگے اپنے گردنوں کو جھکائے ہوئے تھے، توفیق و کامرانی، عزت و آبرو ان کے گھر کی کنیز تھی اور جب مسلمانوں نے اپنے طریقہ اسلامی کو ترک کر دیا، اپنے پیغمبر کی ہدایات کو چھوڑ کر یہود و نصاریٰ اور دشمنان اسلام کے اطوار کو گلے لگایا تو آج در بدر کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن کر رہ گئی ہیں۔

آج دشمنان اسلام نے عورت کو جو خلاف فطرت آزادی دے رکھی ہے، اور اس کا بلانقاب و حجاب سیر و تفریح، مردوں کے ساتھ مصاحبت و مکالمت، مصافحہ و معانقہ کو جائز کر رکھا ہے، دراصل اس میں عورت کی تنقیص شان ہے، عورت کی زینت و عزت اسی میں ہے کہ وہ چھپا کر رکھی جائے، کیونکہ قیمتی اور نایاب چیز کو مخفی ہی رکھا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام نے اتنا جامع و مکمل نظام حیات دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ پاکیزہ انسانی معاشرہ کی تشکیل میں اس سے بہتر کسی دوسرے نظام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے بیچا میل جول کو ممنوع قرار دے کر ایک حد تک پردے کا حکم فرمایا، جو عفت و عصمت کا ضامن، معاشرتی، تمدنی امن کا کفیل ہے۔ جن مذاہب میں پردہ نہیں ہے ان میں عورت کے ساتھ جو ناز و باحرکات کئے جاتے ہیں وہ نہ گفتہ بہ ہیں۔ جن قوموں میں پردہ نہیں یا جو قوم پردے کی پابند نہیں ہیں اور مردوں، عورتوں کے کھلم کھلا میل ملاپ کو صحیح سمجھتی ہیں، مسلمانوں کو ان کی حالت سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ مرد اور عورت خواہ وہ کسی بھی قوم کے ہوں ان کا تخیلہ میں ملنا ایسا ہے جیسے آگ اور بارود۔

آج یہ کہنا کہ پردہ اس ترقی کے دور میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام باتیں صرف یورپ کی طرز زندگی پر فریفتہ ہو جانے والوں کے مزاج کی ہے۔ ورنہ حقیقت میں اسلامی پردہ ترقی کیلئے مانع نہیں۔ کیونکہ جب مسلمان تمام عالم میں عزت و برتری کے واحد مالک تھے، وہ ترقیات کی تمام منازل میں دنیا کی بڑی بڑی قوموں سے آگے تھے، اسلامی پردہ اس وقت سے رائج و مروج ہے۔ اس وقت بھی مسلم خواتین تعلیم یافتہ تھیں، وعظ و تقریر کہا کرتی تھی، تلقین و ہدایت کے بھی فرائض انجام دیتی تھیں، اور یہ سب امور پس پردہ انجام پاتے تھے،

مسلم خواتین برقع و نقاب کے ساتھ جنگی مہمات میں حصہ بھی لیتی تھیں، اہل فوج کیلئے آب رسانی کا بندوبست اور زخم خوردہ لوگوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، پیادہ و سوار ہو کر تیغ زنی کرتی تھیں، مگر وہ حجاب کو ہر حالت میں لازم سمجھی تھیں۔ اس وقت کے غیور اور باعزت مردوں کے دلوں میں بھی کبھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا کہ پردہ ترقیات کے راہوں کیلئے رکاوٹ ہے۔ اور نہ خود ان خواتین نے کبھی اُمراء المؤمنین کی خدمات میں یہ درخواستیں کیں کہ ہمیں پردہ سے نجات ملنی چاہیے۔

عورت کو جو درجات و مقام اسلام نے دیئے وہ کسی مذہب میں نہیں، جس وقت عورت مردوں کیلئے باز سچے اطفال سمجھی جاتی تھی، شہوانی و نفسانی خواہشوں کا سامان، ظلم و ستم اور قید و بند کی زندگی سے دوچار تھی، اہل عرب کے اخلاقی خصائل شرم و حیاء کی پابندیوں سے آزاد تھے، مرد و عورت کا آزادانہ اختلاط اور میل ملاپ تھا، عورتوں کے ساتھ عیش کرنا اور پھر مجلس میں اس پر فخر یہ شعر کہنا معیوب و مکروہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آتے ہی ان رزائل اخلاق عامہ کی کاپیا پلٹ دی۔ ان وسائل و ذرائع کا استیصال کر دیا جو ناجائز اختلاطات کا باعث ہوتے تھے، بازاروں کو ”شرالاماکن“ (سب جگہوں میں بری جگہ) قرار دیا، مردوں کے ساتھ تشبہ کرنے والی عورتوں کو مستوجب لعنت بتایا، گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ”شیطان ان کی تاک میں بیٹھتا ہے“ نا محرم مرد و عورت کا ایک کمرہ

میں تخلیہ قطعاً حرام قرار دیا، عورتوں و مردوں سب کو نیچی نظروں کا حکم دیا، اور ساتھ میں اسلام نے مرد اور عورت دونوں کو آزادی دی اور ان کے جو حقوق تھے، اسلام نے اسے وہ حقوق دلائے، مگر افسوس کہ آج اسلام کو ظلم و ستم کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ اسلام نے بے حیائی سے عورت کو بچا کر کامل آزادی عطا کی ہے اور ایک مسلمان عورت مواضع زینت کو مستور کر کے اپنے کاروبار اور ضرورتوں کے لئے نکل سکتی ہے اور ہر قسم کے تمدنی و معاشرتی کاموں میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ میل جول رکھے، صاحب ثروت اور عفت مآب خواتین کو قطع نظر کر کے غیر مستطیع خواتین اگر نقاب و برقع کے ساتھ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے پیادہ بھی جائیں تو اسلامی پردہ کے ہرگز خلاف نہیں۔ جو گروہ جاہل مسلمانوں کا اس طریقہ کے خلاف ہے، وہ تعلیم و ہنر کا دشمن ہے۔ مسلمانوں کا ہر طبقہ خواہ وہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو، یا بڑا تعلیم حاصل کرنے کیلئے ہر طرح مذہباً آزاد ہے۔ ہر مسلمان عورت کو شرعی پردہ کے ساتھ زیور ہنر سے اپنے آپ کو ایسا مزین کر لینا فرض ہے کہ وہ بوقت ضرورت شرافت و عصمت کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کر سکے۔ پردہ کے ساتھ دائرہ نسوانیت کے اندر شوہر کی ہر معاونت اور قومی بلکہ ملی خدمت بھی انجام دے سکتی ہے۔

عزیزم مولانا غلام مصطفیٰ رضوی سلمہ القوی نے اس قومی و ملی مرض کو صحیح طور پر پہچانا اور موجودہ ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پند و نصائح کو بڑے دلچسپ انداز سے پیش کیا ہے، جو ہماری ماؤں اور بہنوں کیلئے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ دو بہنوں کا مکالمہ کتب معتبرہ و مستندہ کے حوالوں سے مرتب کر کے ایک انوکھے اور اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے، جو ان کے تفہیم و تسہیل کا پتہ دیتا ہے۔

عزیزم موصوف سے راقم الحروف کے بڑے گہرے مراسم ہیں، دینی، قومی، ملی جذبات و خدمات کو دیکھ کر قلوب و اذہان کے سکونت و طمانیت کا سامان ہوتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے استحکام، تصلب فی السنۃ اور ملی ہمدردی دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازیں، ان کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس کتاب کو ہماری ماؤں اور بہنوں کیلئے مفید سے مفید بنائے۔ آمین۔ بجاہ حبیبہ الکریم ﷺ

دعا گو

خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ اور

خانقاہ رضویہ نوریہ بریلی شریف کا

ادنیٰ سوالی

مورخہ : ۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۵ھ
مطابق : ۱۳ اپریل ۲۰۰۴ء

عبدالستار ہمدانی ”مصروف“ برکاتی، نوری